


غوث پاک کی عبادت و ریاضت

ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع  
میں ہونے والا سنتوں بھرا بیان



اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط  
 اَمَّا بَعْدُ! فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

## قبولیتِ دُعا کا پروانہ

حضرت سیدنا فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سیدُ الْمُبَلِّغِيْنَ، رَحْمَةُ اللّٰعَلَمِيْنَ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ (مسجد میں) تشریف فرما تھے کہ ایک آدمی آیا، اس نے نماز پڑھی اور پھر ان کلمات سے دُعا مانگی: "اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وَاَرْحَمْنِيْ، یعنی اے اللہ عَزَّوَجَلَّ! مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما۔" رسول اللہ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: "عَجَلْتَ اَيْهَا الْمُبْصِرُ اے نمازی تو نے جلدی کی۔ اِذَا صَلَّيْتَ فَتَعَدَّتْ فَاحْصِدِ اللّٰهُ بِمَا هُوَ اَهْلُهُ، وَصَلِّ عَلٰى مَنْ اَدَعُكَ، جب تو نماز پڑھ کر بیٹھے تو (پہلے) اللہ تعالیٰ کی ایسی حمد کر جو اس کے لائق ہے اور مجھ پر دُرُودِ پاک پڑھ، پھر اسکے بعد دُعا مانگ۔"

راوی کا بیان ہے کہ اسکے بعد ایک اور شخص نے نماز پڑھی، پھر (فارغ ہو کر) اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی اور حُضُورِ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ پر دُرُودِ پاک پڑھا تو سرکارِ مدینہ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: "اَيْهَا الْمُبْصِرُ اَدْعُ تَتَجَبَّبْ، اے نمازی! تو دُعا مانگ، قبول کی جائے گی۔" (ترمذی، کتاب الدعوات، باب ماجاء في جامع الدعوات۔۔۔۔۔ الخ، ۲۹۰/۵، حدیث: ۳۴۸۷)

بیان کردہ روایت سے معلوم ہوا کہ اگر دُعا مانگنے والا قبولیت کا طالب ہے تو اس پر لازم و ضروری ہے کہ دُعا کے اوّل و آخر نبی کریم، رَعُوْفٌ رَّحِيْمٌ عَلَيْهِ اَفْضَلُ الصَّلٰوةِ وَالسَّلَامِ پر دُرُودِ پاک پڑھا کرے۔

بچیں بے کار باتوں سے پڑھیں اے کاش کثرت سے

ترے محبوب پر ہر دم دُرُودِ پاک ہم مولیٰ

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

بیٹھے بیٹھے اسلامی بھائیو! حصولِ ثواب کی خاطر بیانِ سننے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے

ہیں۔ فرمانِ مُصطَفٰی صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ”بِئْتِةِ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِّنْ عَمَلِہٖ“ مُسْلِمَانِ كِي نِيَّتِ اُس كے عمل سے

بہتر ہے۔ (الْمَعْجَمُ الْكَبِيرُ لِلطَّبْرَانِي ج ۲ ص ۱۸۵ احديث ۵۹۴۲)

دو مدنی پھول: (۱) بغیر اچھی نیت کے کسی بھی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا۔

(۲) جتنی اچھی نیتیں زیادہ، اتنا ثواب بھی زیادہ۔

بیانِ سننے کی نیتیں:

نگاہیں نیچی کیے خوب کان لگا کر بیانِ سنوں گا ❀ ٹیک لگا کر بیٹھنے کے بجائے علمِ دین کی تعظیم کی

خاطر جہاں تک ہو سکا دوزانو بیٹھوں گا ❀ ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کروں گا

❀ دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا، گھورنے، جھڑکنے اور اُلٹنے سے بچوں گا ❀ صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب،

ذُكْرُو اللّٰهَ، تُوْبُوْا اِلٰی اللّٰهِ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صد اگانے والوں کی دل جوئی کے لئے بلند

آواز سے جواب دوں گا ❀ بیان کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مُصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا۔

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

بیان کرنے کی نیتیں:

میں بھی نیت کرتا ہوں ❀ اللہ عَزَّ وَجَلَّ کی رِضَا پانے اور ثواب کمانے کے لئے بیان کروں گا

❖ دیکھ کر بیان کروں گا ❖ پارہ 14، سُورَةُ النَّحْلِ، آیت 125: اُدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ  
وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ (تَرْجَمَةُ كِنزِ الْاِيهَان: اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت  
سے) اور بخاری شریف (حدیث 4361) میں وارد اس فرمانِ مُصْطَفَى صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: بَلِّغُوا عَنِّي  
وَلَوْ آيَةً۔ یعنی ”پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو“ میں دیئے ہوئے احکام کی پیروی کروں  
گا ❖ نیکی کا حکم دوں گا اور بُرائی سے منع کروں گا ❖ اشعار پڑھتے نیز عربی، انگریزی اور مُشْكَلِ الْاَفَاظِ  
بولتے وقت دل کے اِخْلَاصِ پر توجُّہ رکھوں گا یعنی اپنی عَلِيَّتِ کی دھاک بٹھانی مَقْصُودِ ہوئی تو بولنے سے  
بچوں گا ❖ مدنی قافلے، مدنی انعامات، نیز علاقائی دَوْرَہ، برائے نیکی کی دعوت وغیرہ کی رَعْبَتِ دِلَاوَلِ  
گا ❖ تہقہہ لگانے اور لگوانے سے بچوں گا ❖ نظر کی حِفَاظَتِ کا ذہن بنانے کی خاطر حَتَّى الْاِمْكَانِ نگاہیں  
نیچی رکھوں گا۔

صَلُّوا عَلَيَّ الْحَبِيبِ! صَلَّ اللهُ تَعَالَى عَلَيَّ مُحَمَّدٍ

بیان کے مدنی پھول:

میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو! آج میں آپ کے سامنے ”حضورِ غوثِ اعظم جیلانی عَلَيهِ رَحْمَةُ  
اللَّهِ الْعَنِي کی عبادت و ریاضت“ کے حوالے سے مدنی پھول پیش کرنے کی سَعَادَتِ حاصل کروں گا۔ سب  
سے پہلے میں حضرت سَيِّدُنَا شَيْخِ مُحَمَّدِي الدَّرِينِ عبد القادر جیلانی عَلَيهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْعَنِي کی عبادت پر استقامت کا  
ایک واقعہ، آپ کے گوش گزار کروں گا، اس کے بعد آپ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ کے نام، القاب، والدین  
اور آپ کے حلیے کے بارے میں مختصر اَعْرَاضِ کرنے کے بعد عراق کے بیابانوں میں آپ کے پندرہ سالہ  
مجاہدے اور ریاضت کا احوال بھی بیان کروں گا۔ اس کے بعد رات کو کثرت سے عبادت اور شیاطین  
سے مقابلے کا احوال بیان کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی عرض کروں گا کہ بُزْرِ گانِ دِينِ رَحْمَتُهُمُ اللَّهُ الْعَبِيبِ

کو عبادت میں اتنا خشوع و خضوع کیسے حاصل ہوتا تھا، اس کے بعد آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ کا خوفِ خدا اور آخر میں سلام سے متعلق مدنی پھول بھی پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اِنْ شَاءَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ

**بڑی بڑی آنکھوں والا آدمی**

بیٹھے بیٹھے اسلامی بھائیو! امیر اہلسنت دامت برکاتہم العالیہ کے رسالے "سانپ نما جن" سے سانپ نما جن کی ایک خوفناک حکایت سنئے اور غوثِ پاک رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ کی استقامت پر عقیدت سے سر ڈھنئے چنانچہ حضور شہنشاہِ بغداد سرکارِ غوثِ پاک رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ فرماتے ہیں، ایک بار میں جامع منصور میں مصروفِ نماز تھا کہ سانپ آگیا اور اُس نے میرے سجدے کی جگہ پر سر رکھ کر منہ کھول دیا۔ میں نے اُسے ہٹا کر سجدہ کیا مگر وہ میری گردن سے لپٹ گیا پھر وہ میری ایک آستین میں گھس کر دوسری آستین سے نکلا، نماز مکمل کرنے کے بعد جب میں نے سلام پھیرا تو وہ غائب ہو گیا۔ دوسرے روز جب میں پھر اسی مسجد میں داخل ہوا تو مجھے ایک بڑی بڑی آنکھوں والا آدمی نظر آیا میں نے اُسے دیکھ کر اندازہ لگا لیا کہ یہ شخص انسان نہیں بلکہ کوئی جن ہے۔ وہ جن مجھ سے کہنے لگا کہ میں آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ کو تنگ کرنے والا وہی سانپ ہوں۔ میں نے سانپ کے روپ میں بہت سارے اولیاءِ اللہ رَحْمَتُ اللهِ تَعَالَى عَلَیْہِمْ اجمعین کو آزمایا ہے مگر آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ جیسا کسی کو بھی ثابت قدم نہیں پایا۔ پھر وہ جن آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ کے دستِ حق پرست پر تائب ہو گیا۔ (بہجة الأسماء، ص ۱۶۹)

**صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْبِ! صَلَّی اللهُ تَعَالَى عَلَی مُحَمَّدٍ**

ہوئے دیکھ کر تجھ کو کافر مسلمان

بنے سنگدل موم ساں غوثِ اعظم

(قبائلاً بخشش)

بیٹھے بیٹھے اسلامی بھائیو! واقعی خُشوع و خُضوع ہو تو ایسا ہو کہ نماز میں خواہ سانپ ہی لپٹ جائے مگر اللہ عزَّوَجَلَّ کی جانب سے توجُّہ نہ ہٹے۔ آہ! ایک ہماری نماز ہے کہ اگر ہم پر کبھی بھی بیٹھ جائے تو پریشان ہو جائیں، معمولی خارش بھی ہم سے برداشت نہ ہو سکے۔ اس واقعہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جنات بھی ہمارے غوثِ الاعظم علیہ رحمۃ اللہ الاکرم کے مرید بن جاتے ہیں۔

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

آئیے حضور غوثِ پاک رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کی زندگی کے چند گوشوں کے بارے میں سماعت کرتے ہیں۔

**غوثِ اعظم کے القاب اور آپ کے والدین کے نام**

حضرت سیدنا غوثِ الاعظم شیخ عبدالقادر جیلانی عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْغَنِيّی کی ولادت باسعادت یکم رمضان ۴۰ جمادی الثانی المبارک کو جیلان میں ہوئی۔ آپ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالَى عَلَیْهِ کی کنیت ابو محمد ہے اور مُحَمَّدُ الدِّیْن، محبوبِ سبحانی، غوثِ اعظم، غوثِ ثَقَلِیْن و غیرہ آپ کے القابات ہیں۔ آپ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالَى عَلَیْهِ کے والدِ بزرگوار کا نام حضرت سیدنا ابوصالحِ مُوسَى جَنگلی دوست اور والدہ محترمہ کا نام اُمُّ الخیر فاطمہ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالَى عَلَیْهَا ہے، آپ والد کی طرف سے حَسَنی اور والدہ ماجدہ کی طرف سے حُسینی سید ہیں۔

تُو حُسینی حَسَنی کیوں نہ مُحَمَّدُ الدِّیْن ہو

اے خضر مَجْبَعِ بَحْرَیْنِ ہے چشمہ تیرا

(حدائقِ بخشش، ص ۱۹)

## حلیہ مبارک:

دعوتِ اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کے مطبوعہ رسالے "غوٹِ پاک کے حالات"

میں ہے:

آپ کے حلیہ مبارک کے بارے میں حضرت شیخ ابو محمد عبداللہ بن احمد بن قدامہ مقدسی رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ فرماتے ہیں کہ ہمارے امام شیخ الاسلام مُحَمَّدُ الدِّينِ سَيِّدِ عَبْدِ الْقَادِرِ جِيلَانِي، قُطْبِ رَبَّانِي، غُوْثِ صَمَدَانِي رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ ضَعِيفُ الْبَدَنِ، مِيَانَةُ قَدَمَيْهِ، فِرَاحُ السِّنَةِ، چوڑی داڑھی اور دراز گردن، رنگ گندمی، ملے ہوئے ابرو، سیاہ آنکھیں، بلند آواز، اور وافر علم و فضل تھے۔ (ہجۃ الاسرار، ذکر نسبہ و صفتہ

ص ۱۷۴)

دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا شبہ بغداد	مری قسمت کا چکادو ستارہ یا شبہ بغداد
خزاں کا رخ پھر ادو اب خدا را یا شبہ بغداد	کرم میراں میرے اُجڑے گلستاں میں بہار آئے

(وسائلِ بخشش ص ۵۲۲، ۵۲۳)

## چالیس سال تک عشاء کے وضو سے نمازِ فجر ادا فرمائی:

شیخ ابو عبداللہ محمد بن ابوالفتح ہروی رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ فرماتے ہیں کہ ”میں نے حضرت شیخ مُحَمَّدُ الدِّينِ سَيِّدِ عَبْدِ الْقَادِرِ جِيلَانِي، قُطْبِ رَبَّانِي رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ کی چالیس سال تک خدمت کی، اس مدت میں آپ عشاء کے وضو سے صبح کی نماز پڑھتے تھے اور آپ کا معمول تھا کہ جب بے وضو ہوتے تھے تو اسی وقت وضو فرما کر دو رکعت نماز نفل پڑھ لیتے تھے۔ (ہجۃ الاسرار، ذکر طریقہ، ص ۱۶۴)

میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو! آپ نے سنا کہ ہمارے غوثِ پاک کا معمول تھا کہ آپ جب بھی وضو فرماتے تو دو رکعت نفل پڑھ لیتے، حدیثِ پاک میں وضو کے بعد دو رکعت نفل پڑھنے کی فضیلت

آئی ہے آپ بھی سماعت فرمائیے۔ چنانچہ

ایک بار حضور اقدس صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے حضرت بلال رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے ارشاد فرمایا:

”اے بلال! کیا سبب ہے کہ میں جنت میں تشریف لے گیا تو تم کو آگے آگے جاتے دیکھا۔“ عرض کی:

یا رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ میں جب وضو کرتا ہوں، دو رکعت نفل پڑھ لیتا ہوں۔ فرمایا: یہ ہی سبب ہے! (صحیح البخاری، کتاب التہجد، باب فضل الطہور... الخ، الحدیث ۱۱۳۹، ج ۱، ص ۳۹۰، ملخصاً)

اس روایت سے معلوم ہوا کہ ”تَحِيَّةُ الْوُضُو“ ادا کرنے کی بہت بڑی فضیلت ہے، امیر اہلسنت، بانی دعوتِ اسلامی دامت برکاتہم العالیہ 72 مدنی انعامات میں سے مدنی انعام نمبر 20 میں اس فضیلت کو پانے کے لیے ارشاد فرماتے ہیں ”کیا آج آپ نے کم از کم ایک بار تَحِيَّةُ الْوُضُو اور تَحِيَّةُ الْمَسْجِدِ ادا فرمائی؟“

آپ بھی نیت کر لیجئے کہ جب بھی وضو کریں اگر مکروہ وقت نہ ہو تو دو رکعت نماز ”تَحِيَّةُ الْوُضُو“ ادا کر لیں اِنْ شَاءَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ اجر و ثواب کا خزانہ ہاتھ آئے گا۔

ہو کر م! حَسَنِ عَمَلِ آہ! نہیں ہے کوئی	نہ وظائف ہیں نہ اذکار ہیں غوثِ اعظم
حشر کے روز ہماری بھی شفاعت کرنا	آہ! ہم سخت گنہگار ہیں غوثِ اعظم

(وسائلِ بخشش ص ۵۶۱)

صَلُّوْا عَلَي الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَي مُحَمَّد

پندرہ سال تک ہر رات میں ختم قرآن مجید:

بہر حال حضور غوثِ پاک رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ بہت زیادہ عبادت و ریاضت اور قرآن مجید کی تلاوت

کیا کرتے تھے۔ چنانچہ منقول ہے کہ حضور غوثُ الثَّقَلَيْنِ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ پندرہ سال تک رات بھر

میں ایک قرآن پاک ختم کرتے رہے۔ (بہجة الاسرار، ذکر فصول من كلامه... الخ، ص ۱۱۸)

اسی طرح یہ بھی منقول ہے کہ آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ روزانہ ایک ہزار رکعت نفل ادا فرماتے تھے۔“

(تفريح الخاطر، ص ۳۶)

**میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو!** ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ ہم تو جب بھی

عبادت کرنے لگتے ہیں تو کچھ ہی دیر میں تھک جاتے ہیں نیز ہمارا دل بھی پوری طرح عبادت میں نہیں لگتا

اور خُشوع و خُضوع حاصل نہیں ہوتا، لیکن یہ بزرگانِ دین رَحِمَهُمُ اللهُ النَّبِيُّ اتنی زیادہ عبادت کیسے کیا کرتے

تھے اور ان کے دلوں میں عبادت کا اتنا ذوق و شوق کیسے پیدا ہو جاتا تھا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نیک

بندوں کے دل محبتِ الہی اور تقویٰ سے آباد ہوتے ہیں، یہ اپنے دلوں سے دنیا کی محبت نکال دیتے ہیں،

ان کی روحیں ذکرِ الہی کے بغیر بے چین و بے قرار رہتی ہیں، اس لئے وہ ہر لمحہ یادِ الہی میں مگن رہتے ہیں

اور بندے کو یہ مقام عبادت و ریاضت میں سخت محنت کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ بزرگانِ دین رَحِمَهُمُ

الله النَّبِيُّ کی سیرت کا جائزہ لینے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ خدا عَزَّوَجَلَّ کا قُرب حاصل کرنے اور دنیا کی محبت کو

دل سے نکالنے کے لئے بہت سختیاں جھیلتے اور ریاضتیں کیا کرتے تھے۔ چنانچہ،

**سردرات میں چالیس بار غسل**

"بَیِّنَةُ الاسرار شریف میں ہے، سرکارِ بغداد حضورِ غوثِ پاک رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ فرماتے ہیں، میں "

گرخ" کے جنگلوں میں برسوں رہا ہوں، درخت کے پتوں اور بوٹیوں پر میرا گزارہ ہوتا۔ مجھے پہننے کے

لیے ہر سال ایک شخص صُوف (یعنی اُون) کا ایک جُبَّہ لا کر دیتا تھا جس کو میں پہنا کرتا تھا۔ میں نے دنیا کی

مَحَبَّت سے نجات حاصل کرنے کے لیے ہزار جَتَن کیے، میں گُمنام رہا، میری خاموشی کے سبب لوگ

مجھے گونگا، نادان اور دیوانہ کہتے تھے، میں کانٹوں پر ننگے پاؤں چلتا، خوفناک غاروں اور بھیانک وادیوں میں بے جھک داخل ہو جاتا۔ دُنیا بن سنور کر میرے سامنے ظاہر ہوتی مگر اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ میں اُس کی طرف اِنْتِقَات (یعنی توجُّہ) نہ کرتا۔ میرا نفس کبھی میرے آگے عاجزی کرتا کہ آپ کی جو مرضی ہوگی وہی کروں گا اور کبھی مجھ سے لڑتا۔ اللہ عَزَّوَجَلَّ مجھے اس پر فتح نصیب کرتا۔ میں مدّتوں "مدائن" کے بیابانوں میں رہا اور اپنے نفس کو مجاہدات میں لگا تا رہا۔ ایک سال تک گری پڑی چیزیں کھاتا اور بالکل پانی نہ پیتا پھر ایک سال صرف پانی پر گزارہ کرتا اور گری پڑی چیز یا کوئی اور غذا نہ کھاتا پھر ایک سال بغیر کچھ کھائے پئے فاقے سے گزارتا۔ مجھ پر سخت آزمائشیں آتیں۔ ایک بار سخت سردی کی رات میری امتحان لیا گیا کہ بار بار آنکھ لگ جاتی اور مجھ پر غسل فرض ہو جاتا۔ میں فوراً نہر پر آتا اور غسل کرتا اس طرح اس ایک رات میں چالیس بار میں نے غسل کیا۔ (بہجۃ الأسماء و معدن الأنوار، ص ۶۵ ملخصاً)

## مُصِیْبَتِ دُورِ ہونے کا عمل

حضرت علامہ امام شعرانی قَدِیْسُ سَہْءُ النُّوْدَانِ "طبقات کبریٰ" میں حُضُورِ غَوْثِ الْاَعْظَمِ عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰہِ الْاَكْرَمِ کا یہ ارشادِ گرامی نقل کرتے ہیں، ابتداءً مجھ پر بہت سختیاں رکھی گئیں اور جب سختیاں انتہا کو پہنچ گئیں تو میں عاجز آکر زمین پر لیٹ گیا اور میری زبان پر قرآنِ پاک کی یہ دو آیات مبارکہ جاری ہو گئیں:-

فَاِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۝۱۱ اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۝۱۰ (پ ۳۰، الم نشرح: ۶، ۵) ترجمہ کنز الایمان: تو بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے، بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے۔

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ ان آیات کی برکت سے وہ تمام سختیاں مجھ سے دُور ہو گئیں۔ (الطبقات)

الکبریٰ، ج ۱، ص ۱۷۸، ملخصاً، دار الفکر بیروت)

واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا  
اونچے اونچوں کے سروں سے قدمِ اعلیٰ تیرا

ہم بھی کوشش کریں

میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو! دیکھا آپ نے! ہمارے غوثِ الاعظم علیہ رحمۃ اللہ الاکرام نے اپنے ربِّ معظَّم عَزَّوَجَلَّ کا قُرب پانے اور اپنے نانا جان، رَحمتِ عالمیان صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کو خوش فرمانے، نفس و شیطان پر غالب آنے، دنیا کی مَحَبَّت سے پیچھا چھڑانے، گناہوں کے امراض سے خود کو بچانے، مخلوقِ خدَا عَزَّوَجَلَّ کو راہِ راست پر لانے، مُسَلِّح کا شَرَف پانے، نیکی کی دعوت کی دنیا میں دُھوم مچانے اور بے شمار کُفَّار کو دامنِ اسلام میں داخل فرمانے کے لیے ساہا سال تک جِدِّ و جُہد فرمائی۔ خیر ہم حُضُورِ غوثِ پاک رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کی طرح مُجاہدات تو کرنے سے رہے مگر ہمت ہارے بغیر تھوڑی بہت کوشش تو جاری رکھیں۔

سچ ہے انسان کو کچھ کھو کے ملا کرتا ہے  
آپ کو کھو کے تجھے پائے گا جو یا تیرا

(ذوقِ نعت)

ادائیگی قرض

حضرت شیخِ مَحْمُودِ الدِّینِ سَیِّدِ عَبْدِ الْقَادِرِ حَیْلَانِی، قُطْبِ رَبَّانِی رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں: میں ایک دن جنگل میں بیٹھا ہوا فقہ کی کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا کہ ہاتفِ غیبی سے آواز آئی کہ حصولِ علمِ فقہ اور دیگر علوم کی طلب کے لیے کچھ رقم لے کر کام چلا لو۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا: ”تنگی کی حالت میں کس طرح قرض لے سکتا ہوں جبکہ میرے پاس ادائیگی کی کوئی صورت نہیں؟“ تو آواز آئی: ”تم

قرضہ لو، ادائیگی ہمارے ذمہ ہے۔“ یہ سن کر میں نے کھانا فروخت کرنے والے سے جا کر کہا کہ میں تم سے اس شرط پر معاملہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب مجھے خداوند تعالیٰ سہولت عطا فرمادے تو میں تمہاری رقم ادا کروں گا یہ سن کر اس نے رو کر کہا کہ میرے آقا! میں ہر وہ شے پیش کرنے کو تیار ہوں جو آپ طلب فرمائیں، چنانچہ میں اس سے ایک مدت تک ایک ڈیڑھ روٹی اور کچھ سالن لیتا رہا لیکن مجھے یہ شدید پریشانی ہر وقت لاحق رہتی کہ جب میرے اندر استطاعت ہی نہیں تو میں یہ رقم کہاں سے ادا کروں گا۔ اس پریشانی کے عالم میں مجھے ہاتفِ غیبی سے آواز آئی کہ فلاں مقام پر چلے جاؤ وہاں جو کچھ ریت میں پڑا ہو امل جائے اس کو لے کر کھانے والے کا قرض ادا کر دو اور اپنی ضروریات کی بھی تکمیل کرتے رہو، چنانچہ جب میں بتائے ہوئے مقام پر پہنچا تو وہاں مجھے ریت پر پڑا ہوا سونے کا ایک بہت بڑا ٹکڑا ملا جس کو میں نے لے کر ہوٹل والے کا سارا حساب پورا کر دیا۔ (سیرت غوثِ اعظم ص ۴۴)

## مصائب ترقی درجات کا ذریعہ ہیں

بیٹھے بیٹھے اسلامی بھائیو! دیکھا آپ نے ہمارے غوثِ اعظم عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ الْاَكْبَرِ پر کس قدر سختیاں اور مصیبتیں آئیں، لیکن آپ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ صبر سے کام لیتے ہوئے استقامت کے ساتھ عبادت و ریاضت میں مشغول رہتے تو اللہ عَزَّوَجَلَّ نے آپ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ کو غیب سے رزق عطا فرمایا۔ یاد رہے! اللہ عَزَّوَجَلَّ اپنے بندوں پر مصیبتیں نازل فرما کر ان کی آزمائش فرماتا ہے، اگر وہ ان پر صبر کرتے ہیں تو یہ مصیبتیں ان کے درجات کی بلندی کا سبب بنتی ہیں جیسا کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْہُ سے روایت ہے کہ نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سرور صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے

فرمایا: ”اللہ عَزَّوَجَلَّ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے مصیبت میں مبتلا فرمادیتا ہے۔“ (1)

حضرت سیدنا صہیب رومی رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے روایت ہے کہ حضورِ پاک، صاحبِ لولاک صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا ”مومن کے معاملے پر تعجب ہے کہ اس کا سارا معاملہ بھلائی پر مشتمل ہے اور یہ صرف اسی مومن کے لئے ہے جسے خوشحالی حاصل ہوتی ہے تو شکر کرتا ہے کیونکہ اسکے حق میں یہی بہتر ہے اور اگر تنگدستی پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے تو یہ بھی اس کے حق میں بہتر ہے۔“ (2)

محبوبِ رَبِّ العزت، محسنِ انسانیت صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کا فرمانِ عالیشان ہے: جب بندے کا اللہ عَزَّوَجَلَّ کے ہاں کوئی مرتبہ مقرر ہو اور وہ اس مرتبے تک کسی عمل سے نہ پہنچ سکے تو اللہ عَزَّوَجَلَّ اسے جسم، مال یا اولاد کی آزمائش میں مبتلا فرماتا ہے پھر اُسے ان تکالیف پر صبر کی توفیق عطا فرماتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے ہاں اپنے مقرر درجے تک پہنچ جاتا ہے۔ (3)

میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو! رَبُّ الْاِنَامِ عَزَّوَجَلَّ کے ہر کام میں ہزار ہا حکمتیں پوشیدہ ہوتی ہیں جو ہماری عقل میں نہیں آتیں، کبھی کبھار تو اللہ عَزَّوَجَلَّ مصیبتیں نازل فرما کر اپنے بندوں کو آزماتا بھی ہے اور جب وہ صبر کرتے ہیں تو اُن کے گناہوں کو مٹاتا اور درجات کو بلند فرماتا ہے اور بعض اوقات ان مصائب و آلام کے پیچھے ہماری بد اعمالیاں بھی کار فرما ہوتی ہیں۔ چنانچہ

**مصیبتوں کا سبب ہمارے کرتوت ہیں**

امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ كَرَّمَ اللهُ تَعَالَى وَجْهَهُ الْكَرِيمُ نے فرمایا: میں تم کو اللہ عَزَّوَجَلَّ کی

1... بخاری، کتاب المرضی، باب ماجاء کفارة المرضی، ۴/۴، حدیث: ۵۶۴۵

2... مسلم، کتاب الزهد والرقائق، باب المومن امره کله خیر، ص ۱۵۹۸، حدیث: ۲۹۹۹

3... ابوداؤد، کتاب الجنائز، باب الامراض المكفرة... الخ، ۳/۲۴۶، حدیث: ۳۰۹۰

کتاب میں سب سے افضل آیت کی خبر دیتا ہوں جو ہمیں رسول اللہ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے بتائی ہے:

وَمَا آصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا  
 تَرْجَبُهُ كُنُزُ الْإِيمَانِ: اور تمہیں جو مصیبت  
 پہنچی وہ اس کے سبب سے ہے جو تمہارے ہاتھوں  
 كَثِيرٍ ﴿٣٠﴾ (پ ۲۵، الشوری: ۳۰)  
 نے کمایا اور بہت کچھ تو معاف فرما دیتا ہے۔

(حضورِ اکرم، نُورِ مجسم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ہمارے سامنے یہ آیت تلاوت کرنے کے بعد ارشاد فرمایا) اے علی! میں اس کی تفسیر بیان کرتا ہوں، تمہیں دنیا میں جو بیماری، سزایا کوئی بلا پہنچتی ہے وہ اس سبب سے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا، تو اللہ عَزَّوَجَلَّ اس سے بہت زیادہ کریم ہے کہ آخرت میں دوبارہ سزا دے اور اللہ عَزَّوَجَلَّ نے جب دنیا میں تم سے گناہ معاف فرمادئے تو وہ اس سے بہت زیادہ حلیم ہے کہ معاف کرنے کے بعد سزا دے۔ (4)

جو کچھ ہیں وہ سب اپنے ہی ہاتھوں کے ہیں کر توت  
 شکوہ ہے زمانے کا نہ قسمت کا گلہ ہے

## آخرت کی مصیبت برداشت نہ ہو سکے گی

میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو! بیان کردہ حدیثِ پاک سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ اگر ہم پر کبھی کوئی مصیبت آجائے تو بے صبری کا مظاہرہ کرنے کے بجائے ہم میں سے ہر ایک کو یہ ذہن بنانا چاہئے کہ شاید میری برائیوں کی سزا آخرت کے بجائے دنیا ہی میں دے دی گئی ہے۔ اس طرح امید ہے کہ صبر آسان ہو جائے گا۔ خدا کی قسم! مرنے کے بعد ملنے والی سزا کے مقابلے میں دنیا کی سزا انتہائی آسان ہے، دنیا کی مصیبت آدمی برداشت کر ہی لیتا ہے مگر آخرت کی مصیبت برداشت کرنا ناممکن ہے۔

لہذا جب بھی کوئی آفت آپڑے خواہ طویل عرصے تک بے روزگاری یا بیماری دور نہ ہو یا مسائل حل نہ ہوں تو ہمت نہ ہاریئے اور ہر موقع پر صبر، صبر اور صبر سے کام لیجئے۔

پیارے مبلغ معمولی سی مشکل پر گھبراتا ہے  
دیکھ حسین نے دین کی خاطر سارا گھر قربان کیا

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

کھانا چھوڑ دیا

بیٹھے بیٹھے اسلامی بھائیو! حضورِ غوثِ پاک رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِہِ کے نزدیک عبادت و ریاضت کی اتنی اہمیت تھی کہ آپ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِہِ کھانا بھی اسی نیت سے تناول فرماتے تاکہ اس کے ذریعے عبادت پر قوت حاصل ہو سکے۔ چنانچہ حضرت سیدنا عبد اللہ سلمی رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِہِ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا شیخ محی الدین سید عبد القادر جیلانی، قُطْبِ رَبَّانِی عَلَیْہِہِ رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَیْہِہِ نے مجھے اپنا ایک واقعہ اس طرح سنایا کہ جس وقت میں شہر کے ایک محلہ ”قطبیہ شرقی“ میں مقیم تھا تو میرے اوپر چند یوم ایسے گزرے کہ نہ تو میرے پاس کھانے کی کوئی چیز تھی اور نہ کچھ خریدنے کی استطاعت، اسی حالت میں ایک شخص اچانک میرے ہاتھ میں کاغذ کی بندھی ہوئی پڑیا دے کر چل دیا اور میں اس کے اندر بندھی ہوئی رقم سے حلو پر اٹھا خرید کر مسجد میں پہنچ گیا اور قبلہ رُو ہو کر اس فکر میں غرق ہو گیا کہ اس کو کھاؤں یا نہ کھاؤں۔ اسی حالت میں مسجد کی دیوار میں رکھے ہوئے کاغذ پر میری نظر پڑی تو میں نے اٹھ کر اس کو پڑھا تو اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ ”ہم نے کمزور مؤمنین کے لیے رزق کی خواہش پیدا کی تاکہ وہ بندگی کے لیے اس کے ذریعے قوت حاصل کر سکیں“ آپ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِہِ فرماتے ہیں کہ اس تحریر کو دیکھ کر میں نے اپنا رومال اٹھایا اور کھانا وہیں چھوڑ کر دو رکعت نماز ادا کر کے مسجد سے نکل آیا۔ (سیرت غوثِ اعظم

اس سے یہ معلوم ہوا کہ حضورِ غوثِ پاک رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ اس وقت تک کھانا تناول نہ فرماتے جب تک یہ حالت نہ ہو جاتی کہ اب کھائے بغیر نڈھال ہو جائیں گے اور عبادت کی قوت باقی نہ رہے گی اسی لئے آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ نے دو رکعت نماز پڑھی کہ ابھی تو عبادت کی قوت باقی ہے اور وہ کھانا وہیں چھوڑ دیا۔ پتہ چلا کہ کھانا کھانے کا مقصد اور نیت یہ ہونی چاہئے کہ اس کے ذریعے عبادتِ الہی پر قوت حاصل ہو سکے۔ صحابہ کرام علیہمُ الرضوان اور اولیائے عِظَامِ رَحْمَتِ اللهِ تَعَالَى میں سے بعض کئی روز تک نہیں کھاتے تھے، چنانچہ حُجَّةُ الْاِسْلَام امام محمد غزالی علیہ رحمۃ الوالی فرماتے ہیں، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھ دن تک کچھ تناول نہ فرماتے، حضرت سیدنا عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سات دن تک نہ کھاتے، حضرت سیدنا عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے شاگرد رشید حضرت ابوالجوزاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سات دن بھوکے رہتے، حضرت سیدنا ابراہیم بن اڈھم اور حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمہما اللہ تعالیٰ ہر تین دن کے بعد کھانا تناول فرماتے۔ یہ تمام حضرات بھوک کے ذریعے آخرت کے راستے پر چلنے میں مدد حاصل کرتے تھے۔ (احیاء العلوم ج ۳ ص ۹۸)

جبکہ اس کے برعکس آج ہمارا حال یہ ہے کہ فقط نفس کی لذت کی خاطر کھاتے ہیں اور وقت بے وقت ہر قسم کی چیزیں پیٹ میں انڈیلتے رہتے ہیں۔ اے کاش! ہمارا بھی بھوک سے کم کھانے کا ذہن بن جائے اور ہم فقط اتنا کھائیں جس سے عبادتِ الہی پر قوت حاصل ہو سکے۔ اِنْ شَاءَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ اس سے دنیا و آخرت کی بے شمار بھلائیاں حاصل ہوں گی۔

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْبِ! صَلَّی اللهُ تَعَالَى عَلَی مُحَمَّدٍ

## غوثِ اعظم رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ كِي عِبَادَتِ كَا حَال

آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ كُو عِبَادَتِ اِلٰهِي سَے اس قدر شغف تھَا كہ مجاہدات و ریاضات كے بعد جب آپ نے اِحیائے دین كی جدوجہد كَا آغاز فرمایا تو اُس وقت بھی عبادت كے ذوق و شوق میں بالكل فرق نہ آیا۔ آپ ہمیشہ با وضو رہتے، جب حَدَثِ لَاحِقِ ہوتا (یعنی بے وضو ہوتے) تو اسی وقت تازہ وضو فرماتے اور دو ركعت ”تَحِيَّةُ الْوُضُو“ پڑھتے۔ شب بیداری كی یہ كیفیت تھی كہ چالیس سال تك عشاء كے وضو سے صبح كی نماز پڑھتے رہے۔ پندرہ برس تك یہ حال رہا كہ عشاء كی نماز كے بعد ايك پاؤں پر كھڑے ہو جاتے اور قرآن شریف پڑھتے پڑھتے صبح كر دیتے تھے۔ اكثر ايك تہائی رات میں دو ركعت نفل ادا كرتے ہر ركعت میں سُورَةُ الرَّحْمٰنِ يَاسُوْرَةُ الْمُرْمَلِ كی تلاوت كرتے، اگر ”سُوْرَةُ الْاِحْلَاصِ“ پڑھتے تو اُس كی تعداد سو بار سے كم نہ ہوتی، اگر بقاضائے بشریت سونا ضروری ہوتا تو اول شب میں تھوڑا سا سو جاتے پھر جلد ہی اٹھ كر عبادتِ اِلٰهِي میں مشغول ہو جاتے، غرض آپ كی راتیں مراقبہ، مشاہدہ اور یادِ اِلٰهِي میں گزرتی تھیں، نیند آپ سے كو سوں دور رہتی تھی۔ خود فرماتے ہیں كہ مجھے دردِ عشق نیند سے مانع ہے، رات كے وقت كبھی دولت كدہ سے باہر تشریف نہ لاتے، خواہ خلیفہ ہی ملاقات كے لیے كیوں نہ حاضر ہوتا۔ روزے نہایت كثرت سے ركھتے تھے بعض اوقات درختوں كے پتوں، جنگلی بوٹیوں اور گری پڑی مباح چیزوں سے روزہ افطار فرماتے۔ غرض قَائِمِ اللَّيْلِ اور صَائِمِ النَّهَارِ (یعنی رات كو بیدار رہنا اور دن كو روزے ركھنا) آپ كی عادت بن چكي تھی۔

واقعی محبتِ اِلٰهِي جس كی رگ رگ میں سما چكي ہو اور اس كے دل میں محبت كاسمندر رجوش مار رہا ہو اسے بھلا نیند كیسے آسكتی ہے۔ جب غافل دنیا نیند كے مزے لے رہی ہوتی ہے اُس وقت خدا سے محبت ركھنے والے قیام، ركوع اور سجد كے ذریعے اپنے رب عَزَّوَجَلَّ كو راضی كرتے اور اس كا قرب حاصل

کرتے ہیں۔

ایسے ہی نیک لوگوں کے بارے میں اللہ عَزَّوَجَلَّ ارشاد فرماتا ہے: **تَتَجَالَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا** (ترجمہ کنزالایمان: ان کی کروٹیں جدا ہوتی ہیں خوابگاہوں سے اور اپنے رب کو پکارتے ہیں ڈرتے اور امید کرتے۔ پارہ 21، السجدہ: 16)

ایسا ہی حال حضورِ غوثِ اعظم رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ كَاتھا کہ آپ اپنی راتیں عبادتِ الہی میں گزارا کرتے تھے۔ شیخ ابو عبد اللہ محمد بن ابی الفتح ہروی رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ كَابیان ہے کہ میں آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ كی خدمت میں چند راتیں سویا، آپ کا یہ حال تھا کہ ایک تہائی رات تک نفل پڑھتے اور پھر ذکر کرتے پھر کچھ اوراد کرتے رہتے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کبھی آپ کا جسم لاغر ہو جاتا، کبھی فریبہ، کسی وقت میری نگاہوں سے غائب ہو جاتے پھر تھوڑی دیر بعد آجاتے اور قرآن کریم پڑھتے یہاں تک کہ رات کا دوسرا حصہ گزر جاتا، سجدے بہت طویل کرتے، اپنے چہرے کو زمین پر رگڑتے، تہجد ادا فرماتے اور مراقبہ و مشاہدہ میں طلوعِ فجر تک بیٹھے رہتے پھر نہایت عجز و نیاز اور خشوع سے دعا مانگتے، اس وقت آپ کو ایسا نور ڈھانپ لیتا کہ نظروں سے غائب ہو جاتے یہاں تک کہ نمازِ فجر کے لیے خلوت کدے سے باہر نکلتے۔ (بیحۃ الاسرار ص ۲۵۰، سیرت غوثِ اعظم ص ۱۴۱-۱۴۲، ملخصاً)

**بیٹھے بیٹھے اسلامی بھائیو! دیکھا آپ نے حضورِ سیدنا غوثِ اعظم عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهِ الْاَكْبَرُ ساری ساری رات اِخْلَاص و استقامت کے ساتھ عبادت و ریاضت کرتے اور دن میں روزہ رکھتے تھے۔ اے کاش! ہمیں بھی بزرگانِ دین کے صدقے استقامت کے ساتھ عبادت کی سعادت نصیب ہو جائے۔ عموماً ہم لوگ کچھ عرصہ تک عبادت و ریاضت، قرآن پاک کی تلاوت، ذکر و درود کی کثرت کے ساتھ ساتھ**

دیگر نیک اعمال کرتے رہتے ہیں مگر پھر شیطان کے مکر و فریب میں مبتلا ہو کر نیکیوں سے دور اور گناہوں بھری زندگی میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم عبادت پر استقامت چاہتے ہیں تو ہر وقت ہمیں اپنے مقصدِ حیات کو پیش نظر رکھنا ہو گا۔ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے ہمیں مقررہ وقت کیلئے خاص مقصد کے تحت اس دنیا میں بھیجا ہے اس کے بعد ہمیں مرنا بھی پڑے گا چنانچہ پارہ 18 سورۃ المؤمنون آیت

نمبر 115 میں ارشاد ہوتا ہے: **أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ﴿١١٥﴾**

ترجمہ کنزالایمان: تو کیا یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بے کار بنایا اور تمہیں ہماری طرف پھرنا نہیں۔

صدر الافاضل حضرت مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی عَلَیْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْهَادِي اس آیت مقدسہ کے تحت فرماتے ہیں: (کیا تمہیں) آخرت میں جزا کیلئے اٹھنا نہیں بلکہ تمہیں عبادت کیلئے پیدا کیا کہ تم پر عبادت لازم کریں اور آخرت میں تم ہماری طرف لوٹ کر آؤ تو تمہیں تمہارے اعمال کی جزا دیں۔

**میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو! ربِّ کائنات عَزَّوَجَلَّ نے انسان کو اپنی عبادت و معرفت کے لیے پیدا**

فرمایا ہے مگر افسوس! ہم نے اپنے مقصدِ حیات کو بھلا کر دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ لیا ہے اور اس کی محبت میں ایسے گم ہوئے کہ حقوق اللہ کی بجا آوری کا ذرا احساس نہ رہا، یاد رکھیے! دنیا آخرت کی کھیتی ہے اس میں جو بوئیں گے آخرت میں بطور جزا وہی کاٹیں گے۔ اگر نیک اعمال کے ذریعے اس کھیتی کو سیراب کریں گے تو ان شاء اللہ عَزَّوَجَلَّ آخرت میں جنت کی اعلیٰ نعمتوں کے حصہ دار بنیں گے اور اگر اللہ عَزَّوَجَلَّ کی نافرمانی کرتے ہوئے گناہوں بھری زندگی بسر کی تو اللہ عَزَّوَجَلَّ کی ناراضی کی صورت میں عذابِ نار کے حقدار ہوں گے۔ لہذا ہمیں بقدر حاجت اور اپنے بال بچوں کی ضرورت کے مطابق ہی مال کمانا چاہیے اور خود کو دنیا میں ایک مسافر تصور کرنا چاہیے کہ جس طرح مسافر اپنے سفر کے لئے انتہائی قلیل زاد راہ

ساتھ لے کر چلتا ہے کہ کہیں زیادہ بوجھ اپنے اوپر لا دینے کی صورت میں وہ بوجھ باعثِ تکلیف ثابت نہ ہو، اسی طرح دنیاوی زندگی بھی درحقیقت منزلِ آخرت کی طرف ایک سفر ہی تو ہے لہذا ہمیں چاہئے کہ اس سفر میں دنیا کی فانی لذتوں اور آسائشوں کا بوجھ اٹھانے کے بجائے بقدرِ ضرورت پر اکتفا کریں اور نیک اعمال زیادہ سے زیادہ بطورِ زادِ راہ اپنے ساتھ لے کر چلیں۔

یقیناً خوش بخت ہیں وہ لوگ جو جنت کی ابدی نعمتوں کو پیشِ نظر رکھتے ہوئے دنیا کی عارضی تکالیف پر صبر کرتے ہیں اور اعمالِ صالحہ کی راہ میں آنے والی تمام تر مشقتوں کو برداشت کرتے ہوئے اللہ عَزَّوَجَلَّ کے حقوق ادا کرتے ہیں، ایسے خوش نصیبوں کو مبارک ہو کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ انہیں کثیر انعامات و اکرامات سے نوازتا ہے، ہر مُصیبت سے ان کی حفاظت فرماتا ہے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ انہیں اپنا قرب عطا فرماتا ہے۔ چنانچہ

حضرت سیدنا عبد اللہ بن عباس رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فرماتے ہیں کہ نَبِيِّ مُعْظَمٍ، رَسُولِ مُحْتَرَمٍ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے مجھ سے ارشاد فرمایا: اے لڑکے! میں تمہیں ایسی باتیں ارشاد نہ فرماؤں جن سے اللہ عَزَّوَجَلَّ تمہیں نفع بخشے؟ حَقُوقُ اللهِ کی حفاظت کرو، اللہ عَزَّوَجَلَّ تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ حَقُوقُ اللهِ کی حفاظت کرو، اللہ عَزَّوَجَلَّ کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ (یعنی تمہارے معاملات میں اس کی مدد شامل حال ہوگی اور تمہارے کام آسان ہونگے (مرفقا، ۹/۶۲)) فرانی و خوشحالی میں اللہ عَزَّوَجَلَّ کو یاد کرو وہ سختی و شدت میں تمہیں یاد رکھے گا۔ جب سوال کرو تو اللہ عَزَّوَجَلَّ سے کرو اور جب مدد مانگو تو اللہ عَزَّوَجَلَّ سے مانگو۔ قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے قلم اسے لکھ کر خشک ہو چکا ہے اور جو چیز اللہ عَزَّوَجَلَّ نے تمہارا مقدر نہیں فرمائی وہ سب لوگ مل کر بھی تمہیں نہیں دے سکتے اور جو شے اللہ عَزَّوَجَلَّ نے تمہارا مقدر فرمادی

ہے اسے سب لوگ مل کر بھی تم سے نہیں روک سکتے۔ لہذا اللہ عَزَّوَجَلَّ کی رضا کے لئے یقین کے ساتھ عمل کرو اور جان لو کہ ناگوار چیز پر صبر کرنا بہت زیادہ بھلائی کا کام ہے اور مدد صبر کرنے سے حاصل ہوتی ہے، وسعت و کشادگی تنگی کے ساتھ ہوتی ہے اور ہر تنگی کے بعد آسانی ہے۔" (مسند امام احمد

، مسند عبد اللہ بن عباس، ۱/۶۵۹، حدیث: ۲۸۰۴)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلِّ اللهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ

شیطان سے مقابلہ:

پیروں کے پیر، پیر دشت گیر، روشن ضمیر، قطب ربانی، محبوب سبحانی، پیر لاثانی، پیر پیراں، میر میراں، الشیخ ابو محمد سید عبد القادر جیلانی قُدَسِ سِرُّهُ الرَّبَّانِيُّ تَحْدِيثِ نِعْمَتِ اور اہل مَجْتَبِیَّتِ کی نصیحت کے لئے فرماتے ہیں، میں جن دنوں شب و روز جنگل میں رہا کرتا تھا، شیاطین خوفناک شکلوں میں طرح طرح کے ہتھیاروں سے لیس ہو کر فوج در فوج مجھ پر حملہ آور ہوتے، مجھ پر آگ برساتے، میں اللہ عَزَّوَجَلَّ کی مدد سے ان کے پیچھے دوڑتا تو وہ منتشر ہو کر بھاگ جاتے۔ کبھی شیطان اکیلا آ کر مجھے طرح طرح سے ڈراتا، دھمکیاں دیتا اور کہتا یہاں سے چلے جاؤ، میں اُس کو زور دار طمانچہ ماردیتا تو وہ بھاگنے لگتا، پھر میں لَاحَوْلَ

وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ پڑھتا تو وہ جل جاتا۔ (بہجة الاسماء ومعادن الانوار، ص ۱۶۵)

دل پہ کندہ ہو ترانام کہ وہ دُزْدِرَ جِیم (5)

اُلٹے ہی پاؤں پھرے دیکھ کے طغرا تیرا

(حدائق بخشش)

۵... دُھتکارا ہوا چور یعنی مردود شیطان۔

صَلُّوا عَلَيَّ الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيَّ مُحَمَّدٌ

لاحول شریف کی برکت

معلوم ہوا کہ ”لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ“ پڑھنا شیطان کو بھگانے کا بہترین نسخہ ہے، اس لئے جب شیطانی وساوس بندے کو گھیر لیں تو اسے چاہئے کہ فوراً ”لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ“ پڑھے، اِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ شیطان لعین کا منہ کالا ہوگا۔ مفسرِ شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ اللہ لکھتے ہیں: صوفیائے کرام رَحِمَهُمُ اللَّهُ السَّلَامُ فرماتے ہیں کہ جو کوئی صبح و شام اِکْبِس (21) بار لاحول شریف (یعنی لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ) پانی پر دم کر کے پی لیا کرے تو اِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ وَسُوسَةُ الشَّيْطَانِ سے اَمْن میں رہے گا۔ (مرآة المناجیح ج 1 ص 87)

صَلُّوا عَلَيَّ الْحَبِيبِ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيَّ مُحَمَّدٌ

سیدنا غوثِ اعظم رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ كَاخْوَفِ خُدَا

بیٹھے بیٹھے اسلامی بھائیو! اللہ والوں کا ہمیشہ سے یہ وطیرہ رہا ہے کہ ڈھیروں نیکیاں کرنے اور گناہوں سے بچنے کے باوجود وہ بے پناہ خوفِ خدا اور خشیتِ الہی رکھتے ہیں۔ سرکارِ بغداد حضور غوثِ پاک رَحِمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ بھی بے پناہ خوفِ خدا رکھتے تھے چنانچہ حضرت سیدنا شیخ شرف الدین سعیدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی قدس سرہ اللہ عنہ کو حرمِ کعبہ میں دیکھا گیا کہ کنکریوں پر سر رکھے بارگاہِ رب العزت عَزَّوَجَلَّ میں عرض گزار ہیں: ”اے خداوندِ کریم عَزَّوَجَلَّ! مجھے بخش دے اور اگر میں سزا کا حقدار ہوں تو بروز قیامت مجھے آنداھا اٹھانا تا کہ نیکو کار لوگوں کے سامنے شرمندہ نہ ہوں۔“ (گلستانِ سعیدی، ص ۵۴ انتشارات عالمگیر ایران)

بیٹھے بیٹھے اسلامی بھائیو! غور کیجئے کہ حضور غوث پاک رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ دِن رات یادِ الہی میں مشغول ہونے کے بعد بھی یہ فرما رہے ہیں کہ یا اللہ عَزَّوَجَلَّ اگر میں تیری بارگاہ میں سزا کا حقدار ہوں تو روزِ قیامت مجھے اندھا اٹھانا تاکہ اہلِ محشر کے سامنے شرمندہ ہونے سے بچ سکوں۔ یقیناً جنہیں صحیح معنوں میں اللہ عَزَّوَجَلَّ کا خوف ہوتا ہے چاہے وہ جتنے بھی نیک اعمال کر لیں مگر اپنی نیکیوں پر بھروسہ کر کے فکرِ آخرت سے غافل نہیں ہوتے اور ہر وقت خوفِ خدا عَزَّوَجَلَّ سے لرزتے کانپتے رہتے ہیں۔ یاد رکھئے! اس دنیاوی زندگی کی رونقوں، مسرتوں، اور رعنائیوں میں کھو کر حسابِ آخرت کے معاملے میں غفلت کا شکار ہو جانا یقیناً نادانی ہے۔ بلاشبہ خوفِ خدا ہماری اخروی نجات کے لئے بڑی اہمیت کا حامل ہے کیونکہ عبادت کی بجا آوری اور مَنَهِيَّات (یعنی ممنوع چیزوں) سے باز رہنے کا عظیم ذریعہ خوفِ خدا ہے۔ نبی اکرم، نورِ مجسم صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا، "رَأْسُ الْحِكْمَةِ مَخَافَةُ اللّٰهِ یعنی حکمت کا سرچشمہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کا خوف ہے۔" (شعب الایمان، باب فی الخوف من اللہ تعالیٰ، ۴/۱، حدیث: ۷۴۲)

ہماری نجات اسی میں ہے کہ ہم ربِّ کائنات عَزَّوَجَلَّ اور اس کے پیارے حبیب صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے اپنے لئے نیکیوں کا ذخیرہ اکٹھا کریں اور گناہوں کے ارتکاب سے پرہیز کریں۔ اس مقصدِ عظیم میں سرخروئی سے ہمکنار ہونے کے لئے ایک مسلمان کے دل میں خوفِ خدا عَزَّوَجَلَّ کا ہونا بے حد ضروری ہے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پارہ 4 سورہ ال عمران آیت نمبر 175 میں ارشاد فرماتا ہے: **وَمَخَافُونَ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ۔ تَرَجَمَہُ كُنز الایمان: اور مجھ سے ڈرو اگر ایمان رکھتے ہو۔**

حضرت صدر الافاضل مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللّٰہِ الْہَادِی خزانُ العرفان میں اس آیت کریمہ کے تحت فرماتے ہیں کیونکہ ایمان کا مقتضا ہی یہ ہے کہ بندے کو خدا ہی کا خوف ہو۔

ایک اور مقام پر ارشادِ ربّانی ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ (پ ۴، آل عمران: ۱۰۲)

تَرْجَمَةٌ کنز الایمان: اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے اور ہر گز نہ مرنا، مگر مسلمان۔  
 بیٹھے بیٹھے اسلامی بھائیو! جس طرح قرآن کریم میں خوفِ خدا کی اہمیت بیان کی گئی، اسی طرح احادیثِ مبارکہ میں بھی جا بجا خوفِ خدا کی فضیلت اور اس کے احکام بیان فرمائے گئے ہیں لہذا خود کو گناہوں سے بچانے اور دل میں خوفِ خدا جگانے کے لئے چند احادیثِ مبارکہ سنئے۔

حضرت سیدنا انس رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے مروی ہے کہ رحمتِ کونین صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا، "اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اسے آگ سے نکالو جس نے مجھے کبھی یاد کیا ہو یا کسی مقام میں میرا خوف کیا ہو۔" (شعب الایمان، باب فی الخوف من اللہ تعالیٰ، ۱/۴۶۹، حدیث: ۷۴۰)

سردارِ دو جہان، محبوبِ رحمن صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کا فرمانِ عبرت نشان ہے، "جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے، ہر چیز اس سے ڈرتی ہے اور جو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے ڈرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ہر شے سے خوف زدہ کرتا ہے۔" (شعب الایمان، باب فی الخوف من اللہ تعالیٰ، ۱/۵۴۱، حدیث: ۹۷۴)

بیٹھے بیٹھے اسلامی بھائیو! بیان کردہ آیاتِ مبارکہ اور احادیثِ شریفہ سن کر اے کاش! ہمارے دل پر پڑا غفلت کا پردہ چاک ہو جائے اور امیدِ رحمت کے ساتھ ساتھ ہمیں صحیح معنوں میں خوفِ خدا بھی نصیب ہو جائے، اپنے پروردگار عَزَّوَجَلَّ کی ناراضیوں کا ہر دم دھڑکا لگا رہے اور اے کاش! ہم نزع کی سختیوں، موت کی تلخیوں، قبر کی اندھیریوں اور وحشتوں، میدانِ قیامت میں چھوٹی چھوٹی باتوں کی بھی پُرسشوں کے خوف سے ہر وقت لرزاں و ترساں رہنے والے بن جائیں۔

زمانے کا ڈر میرے دل سے مٹا کر

تُو کر خوف اپنا عطا یا الہی

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللهُ تَعَالَى عَلَی مُحَمَّد

## خوف کے تین درجات

بیٹھے بیٹھے اسلامی بھائیو! خوفِ خدا ایک قلبی کیفیت کا نام ہے اور یہ کیفیت ہر شخص کے دل کے اعتبار سے مختلف ہوتی ہے جیسا کہ حضرت سیدنا امام محمد غزالی عَلَیْہِ رَحْمَةُ اللهِ الْوَالِیْہِ تحقیق کی روشنی میں خوف کے تین درجات بیان فرماتے ہیں:

(1) **ضعیف** (یعنی کمزور)، یہ وہ خوف ہے جو انسان کو کسی نیکی کے اپنانے اور گناہ کو چھوڑنے پر آمادہ

کرنے کی قوت نہ رکھتا ہو مثلاً جہنم کی سزاؤں کے حالات سن کر محض جُھر جُھری لے کر رہ جانا اور پھر سے غفلت و معصیت میں گرفتار ہو جانا۔

(2) **مُعْتَدِل** (یعنی متوسط)، یہ وہ خوف ہے جو انسان کو کسی نیکی کے اپنانے اور گناہ کو چھوڑنے پر

آمادہ کرنے کی قوت رکھتا ہو مثلاً عذابِ آخرت کی وعیدوں کو سن کر ان سے بچنے کے لئے عملی کوشش کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ رب تعالیٰ سے امید رحمت بھی رکھنا۔

(3) **قوی** (یعنی مضبوط)، یہ وہ خوف ہے، جو انسان کو ناامیدی، بے ہوشی اور بیماری وغیرہ میں مبتلاء

کردے۔ مثلاً اللہ تعالیٰ کے عذاب وغیرہ کا سن کر اپنی مغفرت سے ناامید ہو جانا۔

یہ بھی یاد رہے کہ ان سب میں بہتر درجہ "معتدل" ہے کیونکہ خوف ایک ایسے تازیانے کی مثل ہے جو کسی جانور کو تیز چلانے کے لئے مارا جاتا ہے، لہذا! اگر اس تازیانے کی ضرب اتنی "ضعیف" ہو کہ جانور

کی رفتار میں ڈڑہ بھر بھی اضافہ نہ ہو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں، اور اگر یہ ضرب اتنی "قوی" ہو کہ جانور اس کی تاب نہ لاسکے اور اتنا زخمی ہو جائے کہ اس کے لئے چلنا ہی ممکن نہ رہے تو یہ بھی نفع بخش نہیں، اور اگر یہ "معتدل" ہو کہ جانور کی رفتار میں بھی خاطر خواہ اضافہ ہو جائے اور وہ زخمی بھی نہ ہو تو یہ ضرب

بے حد مفید ہے۔ (احیاء العلوم، کتاب الخوف والرجائی، بیان درجات الخوف واختلافہ۔۔۔۔۔ الخ، ۴/ ۱۹۲، ماخوذاً)

دل ہائے گناہوں سے بیزار نہیں ہوتا مغلوب شہا! نفس بدکار نہیں ہوتا  
اے رب کے حبیب آوازے میرے طیب آؤ اچھا یہ گناہوں کا بیمار نہیں ہوتا  
گولاکھ کروں کوشش اصلاح نہیں ہوتی پاکیزہ گناہوں سے کردار نہیں ہوتا  
(وسائل بخشش، ص ۲۳۴)

## بیان کا خلاصہ:

**بیٹھے بیٹھے اسلامی بھائیو! آج ہم نے سب سے پہلے یہ سنا کہ حضرت سیدنا غوث اعظم جیلانی قدس سرہ**  
اللوہ اذنی اتنی و لجمعی سے نماز ادا فرماتے تھے کہ ایک جن نے سانپ کا روپ دھار کر آپ کی نماز میں خلل  
ڈالنا چاہا مگر آپ کے پایہ استقلال میں ذرا بھی فرق نہ آیا جس سے متاثر ہو کر اس جن نے آپ کے ہاتھ پر  
توبہ کر لی، اس کے بعد ہم نے سنا آپ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ نے چالیس سال تک عشا کے وضو سے فجر کی نماز  
ادا فرمائی اور پندرہ سال تک ہر رات میں قرآن پاک ختم کرتے تھے، یہ بھی سنا کہ حضور پاک رَحْمَةُ  
اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ نے عراق کے بیابانوں میں پندرہ سال ریاضت اور مجاہدے کے دوران بہت ساری  
مشکلات اور مصائب کا سامنا کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ راہِ خدا میں مشکلیں آتی ہیں جو کہ درجات کی  
بلندی کا باعث بنتی ہیں، اس کے بعد یہ بھی سنا کہ حضور غوث پاک رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ بہت ہی کم کھانا

کھاتے، کھانے سے مقصود لذت نہیں بلکہ عبادت پر قوت حاصل کرنے کی نیت ہو۔ ہم نے یہ بھی جانا کہ جب غافل، نیند کے مزے لے رہے ہوتے ہیں، اُس وقت خدا سے محبت رکھنے والے قیام، رکوع اور سجود کے ذریعے اپنے رب عزوجل کو راضی کرتے اور اس کا قرب حاصل کرتے ہیں، جیسا کہ حضور سیدی غوثِ پاک کا حال تھا، اس کے بعد آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ کے خوفِ خدا سے مُتَعَلِّقِ سنا اور ضمناً خوفِ خدا کے بارے میں قرآنِ پاک کی آیات اور احادیثِ مبارکہ بھی سنیں۔ اللہ عَزَّوَجَلَّ ہمیں بزرگانِ دین کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔

امین بجاہ النبی الامین صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

**میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو!** بزرگانِ دین کی سیرت پر عمل کرنے کیلئے دعوتِ اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو کر شیخِ طریقت، امیرِ اہلسنت دامت بركاتہم العالیہ کے عطا کردہ مدنی انعامات پر عمل کیجئے، اِنْ شَاءَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ اس کی برکت سے نیک لوگوں جیسی صفات پیدا ہو جائیں گی۔

## مجلسِ مدنی انعامات کا تعارف:

میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو! شیخِ طریقت، امیرِ اہلسنت دامت بركاتہم العالیہ کی خواہشات کے عین مطابق اسلامی بھائیوں، اسلامی بہنوں اور جامعات المدینہ و مدارس المدینہ کے طلبہ و طالبات کو باعمل بنانے کے لیے، مدنی انعامات پر عمل کی ترغیب دلانے کے لئے تبلیغِ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوتِ اسلامی کے تحت مجلسِ مدنی انعامات کا قیام عمل میں آیا۔ چنانچہ،

مجلسِ مدنی انعامات کے تمام ذمہ داران کو تاکید کی جاتی ہے کہ ذیلی حلقہ، حلقہ، علاقہ، ڈویژن اور کابینہ سطح کے تمام ذمہ داران و دیگر اسلامی بھائیوں کے ہمراہ ذیلی حلقوں کا جدول بنائیں۔ اسلامی بھائیوں

کے پاس جا جا کر انفرادی کوشش کر کے مدنی انعامات کا رسالہ پیش کرتے ہوئے، اس پر عمل کرنے کا ذہن بنائیں، فکرِ مدینہ کرنے کا طریقہ سمجھائیں، تیار ہو جانے والوں کے نام لکھیں، ذیلی ذمہ دار کے پاس ذیلی، حلقہ ذمہ دار کے پاس حلقہ اور علاقہ / شہر ذمہ دار کے پاس علاقہ / شہر کے (ذمہ داران و اہل محبت) اسلامی بھائیوں کی فہرست موجود ہو، یہ تمام ذمہ داران، ان اسلامی بھائیوں سے رابطہ رکھیں پھر انہیں فکرِ مدینہ کرنے کی یاد دہانی بھی کرواتے رہیں۔

آئیے ہم بھی نیکی کے کاموں میں بڑھ کر چڑھ کر حصہ لیں اور مدنی انعامات پر نہ صرف خود عمل کریں بلکہ دوسرے اسلامی بھائیوں کو اسکی ترغیب دلا کر ڈھیروں ثواب کمائیں!

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

بارہ مدنی کاموں میں حصہ لیجئے!

**میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو! نیکیاں کرنے گناہوں سے بچنے اور نیکی کی دعوت کو عام کرنے**

کیلئے ذیلی حلقے کے 12 مدنی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیجئے۔ ذیلی حلقے کے بارہ مدنی کاموں میں سے ایک مدنی کام اپنے اعمال کا محاسبہ کرتے ہوئے مدنی انعامات پر عمل کرنا بھی ہے۔ ہمارے اسلافِ کرام رَحْمَتُهُمُ اللهُ السَّلَام بھی نہ صرف خود فکرِ آخرت میں اپنے اعمال کا محاسبہ کرتے بلکہ لوگوں کو بھی اس کا ذہن دیا کرتے جیسا کہ امیرُ الْمُؤْمِنِیْنَ حضرت سَیِّدُنَا عُمَرُ فَارُوق رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فرماتے ہیں: "اے لوگو! اپنے اعمال کا حساب کر لو، اس سے پہلے کہ قیامت آجائے اور تم سے ان کا حساب لیا جائے۔ (حلیۃ الاولیاء، ج 1، ص 56) شیخ طریقت، امیرِ اہلسُنَّتِ دَامَتْ بَرَکَاتُهُمُ الْعَالِیَہ نے اس پُر فتن دور میں فکرِ آخرت کا ذہن بنانے، نیکیاں کرنے اور گناہوں سے بچنے کے طریقوں پر مُشتمل مدنی انعامات بَصُوْرَتِ سُوْاَلَاتِ عَطَا فرمائے

ہیں۔ اسلامی بھائیوں کے لئے 72، اسلامی بہنوں کے لئے 63، اسکولز، کالجز اور جامعات کے طلباء کے لئے 92، طالبات کے لئے 83، اور مدرسۃ المدینہ کے مدنی مُنوں کے لئے 40 مدنی انعامات ہیں، اسی طرح خُصُوصی یعنی گونگے بہرے اور نابینا اسلامی بھائیوں اور قیدیوں کے لیے بھی مدنی انعامات مُرتَّب فرمائے ہیں۔ مدنی انعامات کے رسائل مکتبۃ المدینہ کی کسی بھی شاخ سے ہدیہ طلب کیے جاسکتے ہیں، ان کا بَعُور مُطالَعہ کرنے کے بعد آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ یہ ذرّ اَصلِ خُودِ اِحْتِسَابی کا ایک جامع نظام ہے جس کو اپنالینے کے بعد نیک بننے کی راہ میں حائل رُکاوٹیں اللہ عَزَّوَجَلَّ کے فَضْل و کَرَم سے آہستہ آہستہ دُور ہو جاتی ہیں اور اس کی بَرکت سے پابندِ سُنّت بننے، گناہوں سے نَفرت کرنے اور ایمان کی حفاظت کے لئے گڑھنے کا ذہن بنتا ہے۔ آئیے مدنی انعامات کے رسالے کی ایک مدنی بہار ملاحظہ کیجئے۔ چنانچہ،

## مدنی انعامات کے رسالے کی بَرکت

نیو کراچی کے ایک اسلامی بھائی کا کچھ اس طرح بیان ہے: علاقے کی مسجد کے امام صاحب جو کہ دعوتِ اسلامی سے وابستہ ہیں، انہوں نے انفرادی کوشش کرتے ہوئے میرے بڑے بھائی جان کو مدنی انعامات کا ایک رسالہ تحفے میں دیا، وہ گھر لے آئے اور پڑھا تو حیران رہ گئے کہ اس مختصر سے رسالے میں ایک مسلمان کو اسلامی زندگی گزارنے کا اتنا زبردست فارمولا دے دیا گیا ہے۔ مدنی انعامات کا رسالہ ملنے کی بَرکت سے اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ عَزَّوَجَلَّ ان کو نماز کا جذبہ ملا اور نمازِ باجماعت کی ادائیگی کے لیے مسجد میں حاضر ہو گئے اور اب پانچ وقت کے نمازی بن چکے ہیں، داڑھی مبارک بھی سجالی اور مدنی انعامات کا رسالہ بھی پُر کرتے ہیں۔

مدنی انعامات کے عامل پہ ہر دم ہر گھڑی  
یا الہی! خوب برسار حمتوں کی تُو جھڑی

**بیٹھے بیٹھے اسلامی بھائیو! بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے سُنّت کی فضیلت اور چند سُنّتیوں**

اور آداب بیان کرنے کی سَعَادَت حاصل کرتا ہوں۔ تاجدارِ رسالت، شہنشاہِ نبوّت، مُصطفیٰ جانِ رَحمت، شمعِ بزمِ ہدایت، نوشہِ بزمِ جنتِ صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ جنتِ نشان ہے: جس نے میری سُنّت سے مَحَبّت کی اُس نے مجھ سے مَحَبّت کی اور جس نے مجھ سے مَحَبّت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔

(مِشْکَاوَةُ الْمَصَابِحِ، ج ۱ ص ۵۵ حدیث ۷۵ ادارہ الکتب العلمیہ بیروت)

**بیٹھے بیٹھے اسلامی بھائیو! آئیے! شیخِ طریقت، امیرِ اہلسنّت دَامَتْ بَرَکَاتُہُمُ الْعَالِیَہ کے**

رسالے ”101 مدنی پھول“ سے سلام سے مُتَعَلِّق چند مدنی پھول سُنّتے ہیں:

**مدنی پھول:**

(1) مسلمان سے ملاقات کرتے وقت اُسے سلام کرنا سُنّت ہے (2) مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ بہارِ شریعت

حصہ 16 صفحہ 102 پر لکھے ہوئے جُزیئے کا خلاصہ ہے: ”سلام کرتے وقت دل میں یہ نیت ہو کہ جس کو

سلام کرنے لگا ہوں اِس کا مال اور عزّت و آبرو سب کچھ میری حفاظت میں ہے اور میں ان میں سے کسی

چیز میں دَخل اندازی کرنا حرام جانتا ہوں“ (3) دن میں کتنی ہی بار ملاقات ہو، ایک کمرہ سے دوسرے

کمرے میں بار بار آنا جانا ہو وہاں موجود مسلمانوں کو سلام کرنا کارِ ثواب ہے (4) سلام میں پہل کرنا سُنّت

ہے (5) سلام میں پہل کرنے والا اللہ عَزَّوَجَلَّ کا مُقَرَّب ہے (6) سلام میں پہل کرنے والا تکبّر سے بھی

بری ہے۔ جیسا کہ میرے کئی مدنی آقا بیٹھے بیٹھے مُصطفیٰ صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا فرمانِ باصفا ہے: پہلے

سلام کہنے والا تکبر سے بری ہے۔ (شُعَبُ الْإِيمَانِ ج ۶ ص ۴۳۳) (7) سلام (میں پہلے) کرنے والے پر 90 رحمتیں اور جواب دینے والے پر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں (کیمیائے سعادت) (8) السَّلَامُ عَلَیْکُمْ کہنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ ساتھ میں وَرَحْمَةُ اللَّهِ بھی کہیں گے تو 20 نیکیاں ہو جائیں گی۔ اور وَبَرَکَاتُهُ، شامل کریں گے تو 30 نیکیاں ہو جائیں گی۔ بعض لوگ سلام کے ساتھ جَنَّتِ الْبَقَامُ اور دَوَّرُخُ الْخَرَامِ کے الفاظ بڑھا دیتے ہیں یہ غلط طریقہ ہے۔ بلکہ مَنْ چلے تو مَعَاذَ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ یہاں تک بک جاتے ہیں: آپ کے بچے ہمارے غلام۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت، امام اہلسنت، مولینا شاہ امام احمد رضا خان عَلَیْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمَنِ فتاویٰ رضویہ جلد 22 صفحہ 409 پر فرماتے ہیں: کم از کم السَّلَامُ عَلَیْکُمْ اور اس سے بہتر وَرَحْمَةُ اللَّهِ ملانا اور سب سے بہتر وَبَرَکَاتُهُ، شامل کرنا اور اس پر زیادت نہیں۔ پھر سلام کرنے والے نے جتنے الفاظ میں سلام کیا ہے جواب میں اتنے کا اعادہ تو ضرور ہے اور افضل یہ ہے کہ جواب میں زیادہ کہے۔ اس نے السَّلَامُ عَلَیْکُمْ کہا تو یہ وَعَلَیْکُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ کہے۔ اور اگر اُس نے السَّلَامُ عَلَیْکُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ کہا تو یہ وَعَلَیْکُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَکَاتُهُ کہے اور اگر اس نے وَبَرَکَاتُهُ تک کہا تو یہ بھی اتنا ہی کہے کہ اس سے زیادت نہیں۔ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ (9) اسی طرح جواب میں وَعَلَیْکُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَکَاتُهُ کہہ کر 30 نیکیاں حاصل کی جاسکتی ہیں (10) سلام کا جواب فوراً اور اتنی آواز سے دینا واجب ہے کہ سلام کرنے والا سُن لے (11) سلام اور جواب سلام کا دُرُست تلفُّظ یاد فرمائیے۔ پہلے میں کہتا ہوں آپ سُن کر دوہرائیے: السَّلَامُ عَلَیْکُمْ (اَس۔ سلا۔ مُ۔ عَلے۔ کُم) اب پہلے میں جواب سناتا ہوں پھر آپ اس کو دوہرائیے: وَعَلَیْکُمُ السَّلَامُ (و۔ ع۔ لَیْک۔ مُس۔ سلام)۔

طرح طرح کی ہزاروں سنتیں سیکھنے کیلئے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ دو کُتب بہارِ شریعت حصہ 16

(312 صفحات) نیز 120 صفحات کی کتاب ”سنتیں اور آداب“ ہدیہٴ حاصل کیجئے اور پڑھئے۔ سنتوں کی تربیت کا ایک بہترین ذریعہ دعوتِ اسلامی کے مدنی قافلوں میں عاشقانِ رسول کے ساتھ سنتوں بھرا سفر بھی ہے۔

سکھنے سنتیں قافلے میں چلو      لوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو

صَلُّوا عَلَيَّ الْحَبِيبِ!      صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيَّ مُحَمَّدٍ

دعوتِ اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں پڑھے جانے والے 6 ڈروڈوپاک

شبِ جمعہ کا ڈروڈ: اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْحَبِيبِ الْعَالِي

الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِلِ وَعَلَىٰ اٰلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ

بزرگوں نے فرمایا کہ جو شخص ہر شب جمعہ (جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات) اس ڈروڈ شریف کو پابندی سے کم از کم ایک مرتبہ پڑھے گاموت کے وقت سرکارِ مدینہ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کی زیارت کرے گا اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی، یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ سرکارِ مدینہ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ سے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اُتار رہے ہیں۔ (اَنْفَعُ الصَّلٰوَاتِ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ص ۱۵۱ ملخصاً)

(2) تمام گناہ معاف: اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ اٰلِهِ وَسَلَّمَ

حضرت سیدنا انس رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے روایت ہے کہ تاجدارِ مدینہ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے فرمایا: جو شخص یہ ڈروڈوپاک پڑھے اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے

گناہ معاف کر دیئے جائیں گے۔ (ابنِ مَاجَہ ص ۶۵)

(3) رحمت کے ستر دروازے صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيَّ مُحَمَّدٍ

جو یہ ڈروڈوپاک پڑھتا ہے تو اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیئے جاتے ہیں۔ (اَلْقَوْلُ الْبَدِيْعُ ص ۷۷)

(4) ایک ہزار دن کی نیکیاں

جَزَى اللهُ عَنْنَا مُحَبَّدًا مَا هُوَ أَهْلُهُ

حضرت سیدنا ابن عباس رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا سے روایت ہے کہ سرکارِ مدینہ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے فرمایا: اس دُرُودِ پاک کو پڑھنے والے کیلئے ستر فرشتے ایک ہزار دن تک نیکیاں لکھتے ہیں۔

(مَجْمَعُ الزَّوَادِجِ ۱۰ ص ۲۵۴ حدیث ۱۷۳۰۵)

(5) چھ لاکھ دُرُودِ شریف کا ثواب

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِي عِلْمِ اللّٰهِ صَلَاةً دَائِمَةً مَرِيْدًا مِمْلِكِ اللّٰهِ

حضرت احمد صاوی عَيْنِهِ رَحْمَةُ اللهِ الْهَادِي بعض بزرگوں سے نقل کرتے ہیں: اس دُرُودِ شریف کو ایک

بار پڑھنے سے چھ لاکھ دُرُودِ شریف پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ (أَفْضَلُ الصَّلَوَاتِ عَلَى سَيِّدِ السَّادَاتِ ص ۱۳۹)

(6) قُرْبِ مُصْطَفَى صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تَحِبُّ وَتَرْضَى لَهُ

ایک دن ایک شخص آیا تو حضورِ انور صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے اسے اپنے اور صدیقِ اکبر

رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بٹھا لیا۔ اس سے صحابہ کرام رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمْ کو تعجب ہوا کہ یہ کون ذی

مرتبہ ہے! جب وہ چلا گیا تو سرکارِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے فرمایا: یہ جب مجھ پر دُرُودِ پاک پڑھتا

ہے تو یوں پڑھتا ہے۔ (الْقَوْلُ الْبَدِيعِ ص ۱۲۵)

صَلُّوْا عَلٰى الْحَبِيْبِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ